



نیویارک شہر کا فائر ڈپارٹمنٹ (New York City Fire Department) آگ سے حفاظت اور آگ سے بچاؤ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔
 FDNY آپ کو ہماری آگ حفاظتی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔
 آپ کو اور آپ کے خاندان کو آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ خواہ گھر پر، کام پر یا اسکول میں ہوں۔
 منصوبہ بندی، تیاری اور اجتماعی کام کرتا ہے۔ آگ سے بچاؤ کا کام آپ سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر اپنے خاندان سے بات کریں اور یاد رکھیں۔

❶ دھوئیں کا پتا لگانے کا آلہ لگائیں
 یہ یقینی کرنے کے لئے اکثر ان کی جانچ کریں کہ وہ کام کرتے ہیں۔
 دن کی روشنی کی بجٹ کے لئے اپنی گھڑی بدلتے وقت سال میں کم از کم دوبار بیٹری بدلیں۔

❷ گھر میں آگ سے بچ نکلنے کا منصوبہ تیار رکھیں
 گھر میں آگ لگنے کی صورت میں اپنے خاندان کے ساتھ اس سے بچ نکلنے کا منصوبہ تیار کریں۔ اس کی مشق کریں۔
 باہر ملنے کی ایک جگہ کا پہلے سے انتظام کریں۔

❸ گھر کی حفاظت کا معائنہ
 گھر میں آگ کے امکانی خطرات سے حفاظت کا معائنہ کریں۔ انہیں دور کریں۔ ہر ایک کمرے کو آگ سے محفوظ بنائیں۔



نیویارک شہر کا فائر ڈپارٹمنٹ

آگ سے حفاظت کی دس بہترین تجاویز

1. دھوئیں کے خطرے کی گھنٹی زندگی بچاتی ہے۔ اسے لگائیں اور درست حالت میں رکھیں۔
2. بیک وقت تمباکو نوشی اور شراب نوشی مہلک عمل ہے۔
 تمباکو نوشی میں لاپرواہی آگ کی اہم وجہ ہے۔ ایشٹریے کو ردی ڈالنے کی جگہ پر خالی نہ کریں۔
3. دیا سلائی، لائٹر اور موم بتی کو بچوں سے دور رکھیں۔
4. موم بتی کے معاملے میں احتیاط برتیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اسے جلتی ہوئی نہ چھوڑیں۔ موم بتی جلتی چھوڑ کر نہ سوئیں۔
5. بجلی کے تار کو کمبل کے نیچے اور گرمالہ (ریڈیئٹرز) کے پیچھے سے نکالیں۔ اس تار کو کبھی بھی دیوار یا مولڈنگ میں نہ ٹھونکیں۔
6. آؤٹ لیٹ اور ایکسٹنشن کارڈ (اضافی تار) پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔
7. پورٹیبل (سفری) اسپیس ہیٹر کو کبھی پردہ لگانے کی جگہ، فرنیچر، بستر یا دیگر آتش گیر سامان کے پاس نہ رکھیں۔
8. اپنے چولہے یا دیگر ذریعہ حرارت کے پاس آتش گیر رقیق کو ہٹا کر محفوظ اور اس سے دور کی جگہ پر رکھیں۔
9. اپنے چولہے پر سے یا اس کے قریب سے کاغذ، برتن صاف کرنے کے کپڑے، وغیرہ سمیت ایسے تمام سامان کو ہٹا دیں، جن میں آگ لگ سکتی ہو۔
10. جلد خبر کرنے سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں 911 پر فون کریں۔

FDNY کے دفتر معلومات عام کے ذریعہ پیش کردہ